

ڈپازٹ اکاؤنٹس کے لیے ضروری معلومات کا گوشوارہ ¹		
الائیڈ بینک لمیٹڈ ، — برانچ، — (شہر)۔	تاریخ (۱)	تاریخ : مدت جولائی- دسمبر2026
	اہم معلومات: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو غور سے پڑھیں۔ آپ اس دستاویز کو دیگر بینکوں کے پیش کردہ اکاؤنٹس سے موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ موازنہ کرنے کے لیے دیگر بینکوں سے بنیادی معلومات طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔	

اکاؤنٹ کی نوعیت اور نمایاں خصوصیات :یہ معلومات درج بالا تاریخ تک درست ہیں۔ سروسز، فیس اور مارک اپ ریٹ میں ماہانہ بنیادوں پرتبدیلی کی جا سکتی ہے۔ آپ ڈیٹنڈ فیسوں /چارجز کی معلومات ہماری ویب سائٹ یا بینک کی شاخوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

روایتی													تفصیلات
Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 60 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 60 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ36 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 36 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 6 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 6 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 3 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munaf ٹرم ڈپازٹ 3 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 1 ماہ کی میچورٹی	
روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	کورنسی(پاکستانی روپیہ، یو ایس ڈالر ، یورو،وغیرہ)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ کے لیے کم از کم بیلنس (اگر کوئی بے تورقم دج کریں)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ کو برقرار رکھنے کی فیس (اگر کوئی بے تورقم دج جاتا ہے)
پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	کیا اکاؤنٹ پرمنافع ادا کیا جاتا ہے (ہاں /نہیں) قابل اطلاق شرح ٹیکس بے مشروط متوقع شرح منافع۔(%)
9.25	7.60	9.00	7.95	10.50	10.00	10.50	10.00	9.75	9.55	9.50	9.40	10.00	منافع کی ادائیگی کی فریکوئنسی(روزانہ، ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)
ختم ہونے پر	ماہانہ،	ختم ہونے پر	ماہانہ،	ختم ہونے پر	ماہانہ،	ختم ہونے پر	ماہانہ،	ختم ہونے پر	ماہانہ،	ختم ہونے پر	ماہانہ،	ختم ہونے پر	مثال دیں : (مذکورہ مدت میں آپ ہر 1000 روپے پر -----روپے کما سکتے ہیں)
نگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بچت کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	قبل از وقت/جلد رقم نکلوانے کی فیس (اگر کوئی بے تورقم/ریٹ درج کریں)

سروس چارجز
اہم نوٹ: اس اکاؤنٹ کے اہم سروس چارجز کی فہرست درج ذیل ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست [ذرائع کی وضاحت کریں – مثلاً "ہماری شاخوں ، ہماری ویب سائٹwww.abl.com" پر ملاحظہ کر سکتے ہیں]۔ براہ مہربانی نوٹ فرما لیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔

روایتی		
سروسز	طریقہ کار	[مذکورہ بالا پیش کردہ یا استعمال کردہ تمام قسم کے اسلامی اکاؤنٹس کے لیے نیچے دیے گئے سروس چارجز کے لیے رقوم درج کریں۔ فیس نہ ہونے کی صورت میں صفر تحریر کریں۔]
		Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ
کیش ٹرانزیکشنز	بیرون شہر	دستیاب نہیں
	اندرون شہر	دستیاب نہیں
	دیگر بینکوں کی اے ٹی ایم سے رقم نکلوانا	دستیاب نہیں
	بینک صارفین کے لیے CDM چارجز	دستیاب نہیں
ایس ایم ایس الرئس	اے ڈی سی /ڈیجی ٹل	دستیاب نہیں

صارف کا نام:		تاریخ:		
منتخب کردہ پراڈکٹ:				
اکاؤنٹ کا اختیار:		واحد/مشترکہ/کوئی ایک یا حیات		
پتہ				
رابطہ نمبر:		ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	
صارف کے دستخط		دستخط کی تصدیق		